



سوال

(270) داماد سے پردہ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

داماد سے پردہ کا کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

داماد محرام (ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ شرعاً شادی جائز نہیں ہے) میں سے ہے، کیونکہ محرمات کا سہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

"اور تمہاری بیویوں کی ماہیں" (النساء: 23)

یعنی حرام ہیں، اور یہ اہل علم کا اجماعی مسئلہ ہے، مذکورہ آیت کی رو سے بیوی کی ماں، اس کی دادی اور نانی اس کے خاوند کے لیے حرام ہیں۔ لہذا اس کے لیے داماد سے پردہ نہیں ہے وہ اپنے داماد کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتی ہے اس کے ساتھ بوقت ضرورت کہیں جانا پڑ جائے تو جا سکتی ہے۔ اگر ایسا کرتی ہے تو الفت و محبت کی پائیداری کے لیے یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

تفہیم دین

کتاب الحدود، صفحہ: 356

محدث فتویٰ